

قوتِ حافظہ بڑھانے کے طریقے

آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو
(ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک)

روزانہ 21 بار پڑھنا قوتِ حافظہ کے لئے انتہائی نفع بخش ہے۔

قوتِ حافظہ بڑھانے کے لئے 41 بار اس آیت مبارکہ کو خشک
انجیر پر پڑھ کر اُسے کھا لیا جائے تو حافظہ حیرت انگیز طور پر قوی
ہو جاتا ہے اور وہ آیت یہ ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

(کتاب: دنیا و آخرت کی سو پریشانیوں کا حل)



+923332136992

MADRASA-TUL-QAAIM (A.S.)



facebook.com/madrasatulqaaim

پڑھائی میں کمزور طالب علموں
کیلئے ایک مجرب عمل

ہر روز صبح کے وقت ناشتے پر
100 مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا گند ذہنی
دور کرنے کے لئے بہت مجرب ہے۔
~ (اسے ذکر حضرت ادریسؑ کہا جاتا ہے) ~

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ وَوَارِثُهُ

اس ذکر کو شیخ طوسی نے کتاب مصباح المتہجد میں نقل کیا ہے

طالب علموں کی ذہانت میں اضافے کیلئے ایک عمل

اگر کوئی طالب علم اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ
1740 بار پڑھے تو انشاء اللہ وہ صاحب علم ہو جائے گا۔
اُس کی عقل و ادراک و فہم میں ایسا اضافہ ہوگا کہ
پھر کوئی چیز اسے مشکل نہ لگے گی۔ وہ ذکر یہ ہے:

الْمُصَوِّرُ الْمُبْدِيُّ الْمَعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ



(دو ہزار ویک ختم
احمد تقدسی نیا)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

طالب علموں کی ذہانت بڑھانے کا ایک آسان طریقہ

دن و رات میں 804 مرتبہ
یا سُبُوْحُ یا قُدُّوسُ پڑھے۔

اس شرط کے ساتھ کہ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے اور
چوتھے روز صدقہ دے۔ خدا اُسے کرامت عطا کرے گا کہ
گند ذہنی دور ہو جائے گی اور ذہن تیز ہو جائے گا، انشاء اللہ۔

(رہنمائے گرفتاران۔ آقائے نصر اللہ بروجرودی۔ ص 272)